

قلعتم سے شزوس یک قلع

ہمان مروشم

اذغوک سوچبے ٹوھوچروار اخب اکلہ، سنی سن اھکراتاگل
(تالکشم سنی سنے دے)

سے لے کزریئیک و نی دل او کے سوچب مک سے لاس 1



خیرات و تقواک سے نی د مروشم --- رعم --- ماناک سے چب

مروشم دی زم ای ئ اوراک یک دعب

طختسد کے رمام --- ماناک رمام

(مروشم ٹئال کفی رٹ)؟ سہ اس یک سچب اکپا



خرس

سے سیم تامالع یک سے چینی سیم سے چب سے کپارگا
وہ ییٹوک:
■ سوہ سے لینی ٹن وہ
■ وہ نی چب سے تب ای سے دن لم عدر
■ وھراکشاک لکشم سیم سے نیل سن اس ای
■ وھانتی لریک کر کر سن اس ای
■ وہ مدعاق سے ب لمع اک سن اس ای

یک نلم یروفوکپا سے ترورض

ای سیرک لاکرپ 999
کے لاتپسہ سب یرق
سے عیش سنی سجم ای
سیم (یا ڈنی اے)
سینی اج



سے سیم تامالع یک سے چینی سیم سے چب سے کپارگا
وہ ییٹوک:
■ سیم ای اذغ
■ اناک باشپ مک سے لوم عم
■ انریک سے ای
■ اک تار ارح سچر د مدایز سے

مطبار سے سرن ای رٹکڈ پ س ج ی نپا سے ای اچ لریک

نی ای سیرک نوف یرچرس
لاکرپ 111 کے سنی اچ ای
سیرک

AMBER



لاکشم سیم سے نیل سن اس ای
سوہ ناشیرپ پارواوہ بارخ مدایز تحص یک سے چب سے کپارگا

یک دوخ لاھب هکی د

سے د فرط یرسود
تحت کے مروشم سے ینگ
سنا با سیر هگ
لاھب هکی د یک سے چب
سے سٹکس رک

نرزیب س گ

سے سٹکس هکل سہ یربمن دی زم پا) ربمن دی فم هچک



یرچرس ی پ ج
(سیرک ٹونوکر بمن سہ)

س سیاچیا نی ا
111

111 لی اڈ

24 کے ندر واند 7 کے سے تقم)
(بای سسد سے ٹن هگ

میٹ گنڈی زو هتلیہ
(سیرک ٹونرپ سہ یوکربمن)

(سیرک سٹش 7 کے سنی سنا نند 24 ای سسد سے ٹن هگ) NHS Choices www.nhs.uk سے لے سہ مروشم سنی اچ لریک

س ورس نش سمرافنا ی لم یف

سینی اتب وکسا سوہ سے ررک تاب سے نکر کے لمع سوت وھراکر د ممچرت ای دم سیم نابزوکپارگا

سیرک مطبار سے سہ سے لے لریک لوقنی دی زم یکزی واتسد س

قلعتم سے شزوس یك قلع

ممان مروشم

اذغوك سوچب ےٹوھچرواراخباكله، یسن اھكراتاگل

(تالكشم یمن ےن ید

ےل ےكزرریك و نیدل او ےك سوچب مك ےس لاس 1




قلع تم سے شزوس یک قلع

همان مروشم

اذغوک وچب ےٹوھچروراخباکلہ، یسن اھکراتاگل
(تالکش م ی م نے ی د)

ےیل ےکزریئیک و نی دل او ےک وچب مک ےس لاس 1



ےیزی چایک شزوس یک قلع

یتوہ نجوس ی م ویل ان یکاوه یتوھچ تیا من یک روژھپی ھپی ےک ےچب ےکپاوج ے یرامیب یتوھچ کی شزوس یک قلع یتوہ سے نشکیفن ےک سرئی او یرامیب ے ے اتکس وھ لکشمدی زما نیل سن اس ےیل ےک ےچب ےکپا سے س ےچو یک سا ے ےچب یرت مدای ز ے یتن ب ب س اک تامال ع یک ماگز ےکلر پروط ما عروا ے یتوہ ما ع ی م ی م ون ی م ےک روی درس ے ے اتکس وھ لکش م ی م نے یل اذغای نے یل سن اس وک وچب ےٹوھچ تیا من اصوص خ، ےچب ھچکس ی ے تا اوج مرتب بدو خ بدو خ ے ز پانا ج لاتپس موکنا ے نک م مروا

ے یی ایک تامال ع

- ے یتکس وھ ی سن اھکرواراجب ےسا تقواض عب روا ے اتکس ےب کلنک ےچب ےکپا
- ے یتکس وھ مدی دش مدای ی سن اھک یک ےچب ےکپا دع ب ےک ون د ھچک
- یتکس از او ےس ی م س اروا ے یتکس لچزی ت ےس تلاح ما ع سن اس یک ےچب ےک پا
- ے یتکس رپ ینرک ششوک مدای ی م نے یل سن اس ےسا
- ی ے اتکس ا ےفق و رص تخم ی م سن اس وک، وچب ےٹوھچ تبب، ےعفد ض ع ب
- ی ھکی د فرط یرس و دوک س ی اوڈی ا ٹیال کفی رتوت ی ے نا ش یرپ پارگا
- لصاح م نے ےس لتوب ای یتاھچر ادم ی موم ع یک ھود ےچب اکپا ے نکم، ے اتوھ لکش م مدای زان یل سن اس مکنویک ےکسرک
- ےرک باش ی پ ی م ادم مدای ھچک ےس تلاح ما ع مو ے نکم
- ے اتکس وھ نی چ ےبروا ے اتکسرک ع ےچب اکپا دع ب ےک اذغ

ے م ےرتک س ےاتکس ی ک ادم حرط ی ک وک ےچب ےنبا ی موم

- ی م مبترم مدای زرگم ی د اذغ ےسا ی م ادم ی ژوھتوتوہ م ر ےل م اذغ حرط یک تلاح ما ع ےچب اکپا پارگا
- یک نا نی فوری بی ی ای لوم اٹی ساری پ ی م نا پائ ی یتکس وھ مدی پ تامال ع یک مارا ےبروا ی نا ش یرپ ی م وچب یراکش ےک ے م ی ن ارود ای تدش یک یرامیب ی کن ا ےسزی چ سا مک ی ھکر ی م نہذ تاب ے م ے اتکس ےس ی م ےنرکرت تبب وک تامال ع ی یرک لم عرپ تیا اند ے یو ے ھکلر پ ےبڈ ےک ی اوڈ ی نا ب م مار ب اگو ے ی م لی د بت
- ی م ھچو پ ےس شورف ی اوڈ ےنپاوه م ن بای تس د ےیل ےک ےن دیرخ ی اوڈ ی س یٹو ے ے نکم ےیل ےک و م ورگ ےکرم ع مامت
- ےچب ی م نا وکپا پارگا ے ے اچ ان م ے تا و ر ک لام عتسا ی م نا وکپاوت ے م ر ےلر لی ے نا ای ی اوڈ ی ے ےس ےل ےچب اکپا پارگا ےس ےچو یک سرئی او شزوس یک قلع ی ر ک تاب ےس ی پ ی ج ایرٹ ی زو ھتلی ے، شورف اوڈ ےنپاوتوھ لکش م ی م ےن اول ھکوک ی یرک ی م ن دم تیا اوڈا شک م ی نا ر ج ےیل سا ے یتوہ
- یل او ی نا ج یک ےس فرط یک یرس و د ے ی م نا وھدا کوک اب تم ےن م اس ےک پا مک ی ی نا ب ی نی ی قی شزوس یک قلع ے ے یتکس اچ ن پ ن اصوص ی رپ رو ط دی دش وک ت حص یک ےچب ےکپا ی شون ٹی رگس ے یترک بار خر پروط نی گن سوک لئاس م ےک سن اس حرط یک

Based on Scottish Intercollegiate Guidelines (SIGN) 2006
Guideline No. 91 Bronchitis in children - <http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/91/index.html>

First Version: May 2011 • Final Version: Nov 2013 • Review Date: Nov 2015

تخوک ی شون ٹی رگس وکپا پارگا ے اتا م ر دو ج و م ر پ روژبک ےکپا او ھدی ھبر ھپ ی رک ی شون ٹی رگس ی ھبر اب پارگا ی ھکرای ےک و ر ب م ن نار پ نئالرا گد م س ورس گن کو م س پائس س کی س ی وای یر ج رس یک ی پ ی ج ےنپاوت ے ے اچ د م ی م ےنرک پائس لن ی شن) ےچب 5 ماش ےس ےچب 9 حبص م ع م ج ےس ر او موم - 0300 100 1823 ر ب م ن زوف: ی ے اتکسرک مطبار ے عی رڈ ےچب 11 تار ےس ےچب 7 حبص رورہ 0800 169 0 169 ےس زوف نیال بلو ےک کو م س

- ےک روت ف مود ےلگار ھپروا رگ و مرامیب مدای ز نارود ےک ون د 3-1 ےل ےپ ےک یرامیب ےچب یرت مدای ز راکش اک شزوس یک قلع ی م ن تروررض یک تیا اوڈا شک م ی نا ر ج ےس یتکس م ر ےتغہ دی زم دن چ ی سن اھک ےگ ی رک عور شان و م ر تبب نارود اذغ حرط یک تلاح ما ع مو مک ے بل طماک سا) ے یتکس اتکس ا ج س پا و ی م ریئی ےک ڈے ای یرس رن مووتوہ کی ھٹ ےچب اکپا ی ے و ج (و ے لکش م ی م نے یل سن اس ےک سا روا ےرک عور شان یل

ےراب ےک شفر ش ی پ یک ےچب پارگا ی م ن تروررض یک ےن ل م ک ر شک ارا پروط ما عوت ےس م ر و ر تبب حرط ی ھچب اکپا پارگا ی رک مطبار پ 11 س یا چا نی ای یرک تاب ےس م ر ن شکی د پ رت ی زو ھتلی ے ےنپاوت ی ے نا ش یرپ ی م

قلعتم سے شزوس یك قلع

ممان مروشم

اذغوك وچب ےٹوھچرواراخب اكله، یسناھكراتاگل)

(تالكشم یم ےن ید)

ےل ےكزرریك و نیدل او ےك وچب مك ےس لاس 1

